



اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى



(وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة طه

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه (1)

طه

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ

إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى (3)

بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے

تَنْزِيلًا لِّمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4)

یہ اس (ذات برتر) کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)

(یعنی خدائے رحمن جس نے عرش پر قرار پکڑا)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)

جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں

وَأِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7)

اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چھپتے بھید اور نہایت پوشیدہ بات کو جانتا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^{صلی}

(وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8)

اس کے (سب) نام اچھے ہیں

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9)

اور کیا تمہیں موسیٰ (کے حال) کی خبر ملی ہے؟

إِذْ مَرَّ أَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم (یہاں) ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے

لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10)

(میں وہاں جاتا ہوں) شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ (کے مقام) کا راستہ معلوم کر سکوں

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11)

جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ^ط

میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتارو

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)

تم (یہاں) پاک میدان (یعنی) طوی میں ہو

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13)

اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے جو حکم دیا جائے اسے سنو

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

بیشک میں خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)

تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

قیامت یقیناً آنے والی ہے

أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (15)

میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَوْدَىٰ (16)

تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے (کہیں)

تم کو اس (کے یقین) سے روک نہ تو (اس صورت میں) تم ہلاک ہو جاؤ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ (17)

اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا

انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں

وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَاءٌ رَبِّ الْأَخْرَىٰ (18)

اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں

قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ (19)

فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (20)

تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

(خدا نے) فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت

سَعِيدٌهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ (21)

ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے

وَاصْصُمَّ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب (وبیماری) کے بغیر سفید (چمکتا دمکتا) نکلے گا۔

آيَةُ الْأَخْرَىٰ (22)

یہ دوسری نشانی ہے

لُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23)

تاکہ ہم تمہیں اپنے نشاناتِ عظیم دکھائیں

اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24)

تم فرعون کے پاس جاؤ (کہ) وہ سرکش ہو رہا ہے

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25)

کہا میرے پروردگار (اس کام کے لئے) میرا سینہ کھول دے

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26)

اور میرا کام آسان کر دے

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27)

اور میری زبان کی گرہ کھول دے

يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)

تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں

وَاجْعَلْ لِي وَاوِيًّا مِنْ أَهْلِي (29)

اور میرے گھر والوں میں سے (ایک کو) میرا وزیر (یعنی مددگار) مقرر فرما

هَآءِؤْنَ أَخِي (30)

(یعنی) میرے بھائی ہارون کو

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31)

اس سے میری وقت کو مضبوط فرما

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (32)

اور اسے میرے کام میں شریک کر

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33)

تا کہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں

وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا (34)

اور تجھے کثرت سے یاد کریں

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35)

تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36)

فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37)

اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُوحَىٰ (38)

جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے

أَنْ ائْتَدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ

(وہ یہ تھا) کہ اسے (یعنی موسیٰ کو) صندوق میں رکھو پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دو

فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَا أَخْذُهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّ لِي^ج

تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا (اور) میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھالے گا

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39)

اور (موسىٰ) میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی (اس لئے کہ تم پر مہربانی کی جائے) اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

جب تمہاری بہن (فرعون کے ہاں) گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اسکو پالے

فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

تو (اس طریق سے) ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری (کئی بار) آزمائش کی

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ

پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے

ثُمَّ جِئْتَنَا عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ (40)

پھر اے موسیٰ تم (قابلیت رسالت کے) اندازے پر آ پہنچے

وَاصْطَبَعْنَاكَ لِنَفْسِي (41)

اور میں نے تم کو اپنے (کام کے) لیے بنایا

أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42)

تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43)

دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)

اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے

قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45)

دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے

قَالَ لَا تَخَافَا^{صلے}

(خدا نے) فرمایا کہ ڈرو مت

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَنسِي (46)

میں تمہارے ساتھ ہوں (اور) سنتا اور دیکھتا ہوں

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ^{صلے}

(اچھا) تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں

تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ^{صلے}

ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47)

اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہے

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48)

ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لئے عذاب (تیار) ہے

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى (49)

(غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے) اس نے کہا موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50)

کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51)

کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟

قَالَ عَلِمُوا مَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ^{صَلٰ}

کہا کہ انکا علم میرے پروردگار کو ہے (جو) کتاب میں (لکھا ہوا ہے)

لَا يَصِلُ إِلَى رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52)

میرا پروردگار نہ چھوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

وہ (وہی تو ہے) جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے جاری کئے

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (53)

اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کیں

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ^ط

کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی بھی چراؤ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى (54)

بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55)

اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56)

اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57)

کہنے لگا موسیٰ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اپنے جادو (کے زور) سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ

تو ہم پھر تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے

فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا

تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو

لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ

نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم

مَكَانًا سُوًى (58)

(اور یہ مقابلہ) ایک ہموار میدان میں (ہوگا)

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ حُجَيْجًا (59)

(موسیٰ نے) کہا کہ آپ کے لئے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60)

تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آیا

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ

موسیٰ نے ان (جادو گروں سے کہا) ہائے تمہاری کذب خدای

پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب دے فنا کر دے گا

وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى (61)

اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا

فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى (62)

تو وہ باہم اپنے معاملہ میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے

قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ أِنِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ جَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا

کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو گر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو (کے زور) سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں

وَيَذُفُّ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى (63)

اور تمہارے شائشہ مذہب کو نابود کر دیں

فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَصَفَاءَ

تو تم (جادو کا) سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعَلَى (64)

اور آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65)

بولے کہ موسیٰ یا تو تم (اپنی چیز) ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں

قَالَ بَلْ أَلْقُوا

(موسیٰ نے) کہا نہیں تم ہی ڈالو

فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعَصِيهِمْ يُبَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَهْمًا تَسْعَى (66)

(جب انہوں نے چیزیں ڈالیں) تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ

کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ (میدان میں) ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (67)

(اس وقت) موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ (68)

ہم نے کہا خوف نہ کرو بلاشبہ تم ہی غالب ہو

وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا^{صل}

اور جو چیز (یعنی لاشی) تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسکو نگل جائے گی

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ^{صل}

جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادو گروں کے ہتھکنڈے ہیں

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ (69)

اور جادو گر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا

فَأُلْفِيَ السَّحَرَةُ سَجْدًا

(القضہ یونہی ہوا) تو جادو گر سجدے میں گر پڑے

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (70)

اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ^{صل}

(فرعون) بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟

إِنَّهُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ^{صل}

بے شک وہ تمہارا بڑا (یعنی استاد) ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے

فَلَا تُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَمْ جَلَّكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبِكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ

سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں (جانب) خلاف سے کٹوادوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوادوں گا

وَلِتَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)

(اس وقت) تم کو معلوم ہو گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے

فَاتَّضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجیے

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72)

اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں (دے سکتے ہیں)

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا

ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ

اور (اسے بھی) جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73)

اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ

جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74)

جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا

وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْتًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ

اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کئے ہوں گے

فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75)

تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں

جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

(یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76)

اور یہ اس شخص کا بدلہ ہو گا جو پاک ہو

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ

فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ

پھر ان کے لئے دریا میں (لاٹھی مار کر) خشک راستہ بنا دو

يَسَّالًا لَتَخَاتُ دَرَاكًا وَلَا تَخْشَى (77)

پھر تم کو نہ تو (فرعون کے) آپکڑنے کا خوف ہو گا اور نہ (غرق ہونے کا ڈر)

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)

پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی

(موجوں) نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا (یعنی ڈبو دیا)

وَأَصْلًا فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79)

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ

اے آل یعقوب! ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی

وَوَاعَدْنَاكُمْ بجانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

اور (تورات دینے کے لئے) تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى (80)

اور تم پر من اور سلوی نازل کیا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

(اور حکم دیا کہ) جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

اور اس میں حد سے نہ نکلنا اور نہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا

وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81)

اور جس پر میرا غضب نازل ہو اوہ ہلاک ہو گیا

وَأِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82)

اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں

وَمَا أَجْعَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83)

اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے (آگے چلے آنے میں) کیوں جلدی کی؟

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي

کہا وہ میرے پیچھے (آ رہے) ہیں

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84)

اور اے پروردگار میں نے تیری طرف (آنے کی) جلدی اس لئے کی کہ تو خوش ہو

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ

فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85)

اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے

قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنًا

اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ

کیا (میری جدائی کی) مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ

یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف غضب نازل ہو؟

فَأَخْلَقْتُمْ مَوَٰعِدِي (86)

اور (اس لئے) تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا

وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو (آگ میں) ڈال دیا

فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87)

اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ حُورًا

تو اس نے انکے لئے ایک مچھڑا بنا دیا (یعنی اس کا) قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی

فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي (88)

تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں

أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَدْرَجُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا

وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا (89)

اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ^ص

اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو! اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے

وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ

اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90)

تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (91)

وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئیں ہم اس (کی پوجا) پر قائم رہیں گے

قَالَ يَا هَٰرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92)

(پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا) کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟

أَلَا تَتَّبِعُنَّ

(یعنی) اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)

بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف (کیوں کیا؟)

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

کہنے لگے بھائی میری داڑھی اور سر (کے بالوں) کو نہ پکڑیئے

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94)

میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95)

(پھر سامری سے) کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ

اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَيْتُهَا

تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے (مٹی کی) ایک مٹھی بھری پھر اس کو پچھڑے کے قالب میں ڈال دیا

وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي (96)

اور مجھے میرے جی نے (اس کام کو) اچھا بتایا

قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ^ص

(موسیٰ نے) کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ (سزا) ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگا

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِقَهُ^ص

اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے (یعنی عذاب کا) تجھ سے ٹل نہ سکے گا

وَإِنظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا^ص

اور جس معبود کی (پوجا) پر تو (قائم و) معتکف تھا اس کو دیکھ

لنَحَرَ قَتْنَهُ ثُمَّ لَتَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97)

ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے

إِنَّمَا إِلْهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^ج

تمہارا معبود وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98)

اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ^ج

اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99)

اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت (کی کتاب) عطا فرمائی ہے

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100)

جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن (گناہ کا) بوجھ اٹھائے گا

صَلٰ
خَالِدِينَ فِيهِ

(ایسے لوگ) ہمیشہ اس (عذاب) میں (بتلا) رہیں گے

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101)

اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے برا ہے

ج
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

جس روز صور پھونکا جائے گا

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّرْقًا (102)

اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103)

(تو) وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم (دنیا میں) صرف دس ہی دن رہے ہو

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں

إِذْ يَقُولُ امْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104)

اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا (یعنی عاقل و ہوشمند) کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں

فَقُلْ يَنْدَسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105)

کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106)

اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107)

جس میں نہ تم کجی (اور پستی) دیکھو نہ ٹیلا (اور نہ بلندی)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ

اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

اور خدا کے سامنے آوازیں پس ہو جائیں گی

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108)

تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109)

اس روز (کسی کی) سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اسی کی بات کو پسند فرمائے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسکو جانتا ہے

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110)

اور وہ (اپنے) علم سے خدا (کے علم) پر احاطہ نہیں کر سکتے

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ^{صل}

اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111)

اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112)

اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہو گا اور نہ نقصان کا

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں

أَوْ يُحَدِّثُ هُمْ ذِكْرًا (113)

یا خدا ان کے لئے نصیحت پیدا کر دے

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ^{صل}

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ^{صل}

اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا

ہونے سے پہلے قرآن کے (پڑھنے کے) لئے جلدی نہ کیا کرو

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)

اور دعا کرو کہ میرا پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنِ إِبْلِيسَ

اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ (اسے) بھول گئے

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115)

اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116)

تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117)

تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوانہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (118)

یہاں تم کو یہ (آسائش) ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (119)

اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ

تو شیطان نے انکے دل میں وسوسہ ڈالا

قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَىٰ (120)

(اور) کہا کہ آدم! بھلا میں تم کو (ایسا) درخت بتاؤں (جو) ہمیشہ کی

زندگی کا (ثمرہ دے) اور (ایسی) بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو؟

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ^ج

تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر انکی شرمگاہیں ظاہر

ہو گئیں اور وہ اپنے (بدنوں پر) بہشت کے پتے چپکانے لگے

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (121)

اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (122)

پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا^ط

فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ^ط

تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَشْقَى (123)

پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری
ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)

اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اڑھائیں گے

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125)

وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا

(خدا) فرمائے گا کہ ایسا ہی (چاہئے تھا) تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)

اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے

وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اسکو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127)

اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ^ط

کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ (128)

عقل والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى (129)

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور (جزائے اعمال کے لئے) ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو (نزول) عذاب لازم ہو چکا ہوتا

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا^ط

اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اسکے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو

وَمِنْ أَنْاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

اور رات کی ساعات (اولین) میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور

دن کے اطراف (یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی)

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (130)

تاکہ تم خوش ہو جاؤ

وَلَا تَتَمَنَّاَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ^ج

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131)

اور تمہارے پروردگار کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی بہت اور باقی رہنے والی ہے

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا^ط

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو

لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرِزُقُكَ^ط

ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132)

اور (نیک) انجام (اہل تقویٰ) کا ہے

وَقَالُوا لَوْلَا آيَاتُنَا بِآيَةِ رَبِّهِ^ج

اور کہتے ہیں کہ یہ (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟

أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَاتٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133)

کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا هُمُ بَعْدَ ابْنِ قَبْلِهِ لَقَالُوا

اور اگر ہم انکو پیغمبر (کے بھیجنے) سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134)

اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم

ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (وا حکام) کی پیروی کرتے

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا^{صلے}

کہہ دو کہ سب (نتائج اعمال کے) منتظر ہیں سو تم بھی رہو

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135)

عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ (دین کے) سیدھے راستے پر چلنے

والے کون ہیں اور (جنت کی طرف) راہ پانے والے کون ہیں (ہم یا تم)



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com